

# سودی قرض وصول کرنے کی Job کرنا

مجیب: مولانا محمد انس رضا عطاری مدنی

فتویٰ نمبر: WAT-2520

تاریخ اجراء: 20 شعبان المعظم 1445ھ / 02 مارچ 2024ء

## دارالافتاء اہلسنت

(دعوت اسلامی)

### سوال

کیا میں فائننس میں کام کر سکتا ہوں جبکہ وہاں پر لون پر گاڑیاں دی جاتی ہیں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ کمپنی جس کو لون دیتی ہے وہ اپنی پر اس سے کچھ اضافی رقم بھی وصول کرتی ہے اور میرا کام ان قرضوں کی قسطیں وصول کرنا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ میرا ایسی جاب کرنا کیسا؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

دریافت کردہ صورت میں آپ کا یہ جاب کرنا جائز نہیں، کہ آپ کی جاب سودی معاملات میں تعاون پر مشتمل ہے اور جس طرح سود لینا دینا، ناجائز ہے، اسی طرح سودی معاملات میں تعاون بھی ناجائز ہے۔  
سود سے وابستہ افراد پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی، چنانچہ سنن ابی داؤد میں ہے ”لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، ومؤکلہ وشاہدہ وکاتبہ“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، اس کے کھلانے والے، اس کے گواہ اور اس کے لکھنے والے پر لعنت بھیجی۔ (سنن ابی داؤد، حدیث 3333، ج 3، ص 244، المكتبة العصرية، بیروت)

گناہ کے کاموں پر مدد کی ممانعت کے متعلق اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾  
ترجمہ کنز الایمان: اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو۔ (پارہ 6، سورة المائدة، آیت 2)

درر الحکام شرح غرر الاحکام میں ہے ”والأصل أن الإجارة لا تجوز عندنا على -- المعاصي“ ترجمہ: اصل یہ ہے کہ ہمارے نزدیک گناہوں پر اجارہ جائز نہیں۔ (درر الحکام شرح غرر الاحکام، کتاب الاجارة، ج 2، ص 233، دار احیاء الکتب العربیة)

اوپر ذکر کی گئی آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے امام اہلسنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سودی امور پر مشتمل ملازمت کا حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”دکان کی ملازمت اگر سود کی تحصیل

وصول یا اس کا تقاضا کرنا یا اس کا حساب لکھنا، یا کسی اور فعل ناجائز کی ہے تو ناجائز ہے۔" (فتاویٰ رضویہ، ج 19، ص 520، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ



**Darul-Ifta Ahlesunnat (Dawat-e-Islami)**



[www.daruliftaahlesunnat.net](http://www.daruliftaahlesunnat.net)



[daruliftaahlesunnat](https://www.facebook.com/daruliftaahlesunnat)



[DaruliftaAhlesunnat](https://www.youtube.com/DaruliftaAhlesunnat)



[Dar-ul-ifta AhleSunnat](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daruliftaahlesunnat)



[feedback@daruliftaahlesunnat.net](mailto:feedback@daruliftaahlesunnat.net)